

فرد نفع و نقصان سے مراد

فرد نفع و نقصان سے مراد = اس سے مراد ایسا حساب ہے جو کہ کاروبار کا خالص نفع یا نقصان معلوم کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔

تیار کرنے کا طریقہ

فرد نفع و نقصان کی بھی دو اطراف ہوتی ہیں یعنی ڈیبٹ سائیڈ بائیں جانب اور کریڈٹ سائیڈ دائیں جانب۔ اس لئے بائیں جانب ڈیبٹ سائیڈ اور تمام بالواسطہ اخراجات (براہ راست اخراجات میں) اور نقصان درج کئے جاتے ہیں اور دائیں جانب (کریڈٹ سائیڈ) پر تمام بالواسطہ آمدنی درج کی جاتی ہیں۔

تیار کرنے کا طریقہ

ان سے مراد ایسے اخراجات ہیں جو تیار شدہ مال کی فروخت اور کاروبار کو سنبھالنے کی بنا پر برداشت کئے جائیں۔ مثلاً اکاؤنٹ کی تنخواہ۔ دکان کا کرایہ۔ سٹیشنری وغیرہ اور ایسے تمام بالواسطہ اخراجات یا نقصان کو گوشوارہ نفع و نقصان (نفع اور نقصان اے سی) میں بائیں جانب درج کئے جاتے ہیں۔ لیکن براہ راست اخراجات کو تجارتی کھاتہ یا فرد تجارت (تجارتی اکاؤنٹ) میں بائیں طرف بھی درج کیا جاتا ہے۔

بالواسطہ آمدنی

اس سے مراد ایسی آمدنی یا وصولی ہے جو کہ اشیاء کو براہ راست فروخت کرنے سے حاصل نہ ہو بلکہ دوسری مدوں میں حاصل ہو۔ مثلاً وقت پر یا وقت سے پہلے قرضہ کی ادائیگی کی صورت میں کٹوتی یا چھوٹ۔ اپنی خدمات پیش کرنے کے عوض کمیشن یا دکان کو کرایہ پر دینے سے حاصل ہونے والی رقم وغیرہ اور ایسی تمام بالواسطہ آمدنیوں یا وصولیوں کو گوشوارہ نفع و نقصان میں دائیں جانب (کریڈٹ سائیڈ) خرچ کیا جاتا ہے۔

گوشوارہ نفع و نقصان کی تکمیل

شکل نمبر 2 سے ظاہر ہے کہ یہ حصہ پہلے حصے یعنی فرد تجارت کے نیچے بنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فرد تجارت سے نیچے لائی ہوئی مجموعی آمدنی اور متفرق آمدنی سے انتظامیہ کے باقی اخراجات نکال کر خالص منافع کی رقم کا تعین کیا جا سکے۔

متفرق آمدنی

بعض دفعہ متفرق آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو پھر مجموعی آمدنی (مجموعی منافع) سے ہی انتظامی اور دیگر بالواسطہ اخراجات نکالے جاتے ہیں۔

بائیں طرف اخراجات میں جو خرچ آتے ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں۔

تنخواہیں (دفتری عملہ کی تنخواہ)

دکان یا دفتر کا کرایہ

فروخت کے وقت رعایت چھوٹ دینا

دفتر اسٹیشنری کا خرچ

اشتہاروں پر خرچ

آنے جانے کا کرایہ

دفتر کے امور پر خرچ مثلاً

اندراجات

مندجہ بالا فرد نفع و نقصان میں اندراجات مکمل کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں اطراف میں سے کون سی جانب بڑی ہے۔ اگر بائیں جانب ڈیبٹ سائیڈ بائیں جانب (کریڈٹ سائیڈ) سے بڑی ہو تو فرق خالص نقصان ہو گا اور اگر دائیں جانب (کریڈٹ سائیڈ) بائیں جانب (ڈیبٹ سائیڈ) سے بڑی ہے تو فرق خالص نفع

ہوگا۔

بیلنس شیٹ

خالص نفع کی رقم کو بیلنس شیٹ (توازن شیٹ) میں دائیں جانب یعنی واجبات کی طرف) واجبات کی جانب تاجر کے سرمایہ کے سرمایہ یعنی (سرمایہ) میں جمع کر دی جاتی ہیں اس کے برعکس اگر خالص نقصان ہو تو واجبات کی جانب تاجر کے سرمایہ میں سے منہا کر دی جاتی ہے۔

مثال نمبر ۱

مثال نمبر ۱ سے ظاہر ہوگا کہ بائیں جانب جو اخراجات دکھائے گئے ہیں ان کی میزان 32,000 روپے بنتی ہے۔ اس کے برعکس دائیں طرف جو مجموعی اور دیگر آمدن دکھائی گئی ہے اس کی میزان 75,000 روپے ہے۔ ان دونوں کا فرق 75,000 منفی 32,000 روپے نکالنے سے 43,000 روپے آئے گا۔

رقم

جو خالص منافع ہے۔ لہذا منافع کو سرمایہ میں جمع کر دیں گے لیکن نقصان کی صورت میں اسے سرمایہ سے کم یا منفی کر دیں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں نفع کی صورت میں منافع کو سرمایہ میں جمع کر دیا جاتا ہے۔

نقصان کی صورت میں

جس سے رقم یا سرمایہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نقصان کی صورت میں اسے سرمایہ سے منفی کر دیا جاتا ہے جس سے سرمایہ یا رقم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

گوشوارہ اثاثہ جات و واجبات

تجارتی سال کے آخر میں کاروبار نفع یا نقصان معلوم کرنے کے علاوہ تاجر اور صنعت کار یہ جانتا بھی چاہتے ہیں کہ کاروبار کی مالی حالت کیسی ہے، کس کو دیتا ہے اور کس کس سے لینا ہے۔

ملکیت

کاروبار کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں لہذا بنانے کے علاوہ مندرجہ بالا مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایک تجارت اور منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ (گوشوارہ و اور بھی بنایا جاتا ہے جسے گوشوارہ اثاثہ جات و واجبات یا چھٹا توازن کہتے ہیں

کاروبار ادارے کے تمام اثاثہ

ایک گوشوارہ ہے جس میں کاروبار ادارے کے تمام اثاثہ (اثاثے) اور ذمہ داریاں واجبات (واجبات) دکھائے جاتے ہیں۔ اس سے کاروبار ادارے کی مالی ساکھ کا تعین کیا جاتا ہے۔

مالک کا سرمایہ

اس گوشوارے کی بھی دو اطراف ہوتی ہیں لیکن ان کو دین (ڈیبٹ) اور لین (کریڈٹ) کی بجائے دائیں طرف کو واجبات ذمہ داریاں کی جانب کہتے ہیں اور بائیں جانب کو اثاثہ جات کی جانب کہتے ہیں۔

واجبات ذمہ داریوں کی جانب

واجبات ذمہ داریوں کی جانب مالک کا سرمایہ اور نفع و نقصان بھی دکھائے جاتے ہیں نفع ہو تو مالک کے سرمایہ میں جمع اور نقصان ہو تو منہا کر دیا جاتا ہے۔

ذمہ داریاں

ان کے علاوہ باقی ماندہ تمام واجبات ذمہ داریاں بھی اس طرف دکھائی جاتی ہیں، دوسری طرف اثاثہ جات ظاہر کئے جاتے ہیں۔

حیثیت

كبهى كبهى اس طرف اصل نقصان بهى دكها ديا جاتا ٲے چونكه به گوشواره صرف اثاثه جات و واجبات كا آئينه دار هوتا ٲے اس لئے اس كو كهاتوں كى طرح كهاتے كى حيثيت حاصل نهى بلكه اس كو صرف ايك گوشواره ٲى سمجها جاتا ٲے اور اس سے كسى اداره كى مقررہ تاريخ كى مالى حالت ظاير هوتى ٲے۔

اثاثہ جات

گوشواره اثاثہ جات واجبات يا تختہ واصل باقى (بيلنس شيٹ) كا نمونہ شكل نمبر 1 ميں ديا گيا ٲے اس نقشہ كو اچھى طرح ديكهئے۔ بائى طرف اثاثہ جات اور دائيں طرف تاجر كا سرمايه جمع نفع و نقصان اور ديكر قرضے اور واجبات ٲيں جو كاروبار سے تعلق ركھتے ٲيں۔

ہم اُميد كرتے ٲيں آپ كو "فرد نفع و نقصان سے مراد" كے بارے ميں مكمل آگاٲى مل گئى ٲوگى۔۔۔

مزيد معلومات كيلئے ہمارے اس لنك پر كلك كريں👉

ہماری ويب سائٹ پر آنے كيلئے شكريہ